

224808 - ام المؤمنین خدیجہ کے لیے "خدیجۃ الكبرى" کے لقب کا کوئی ثبوت نہیں

سوال

خدیجہ رضی اللہ عنہا جن کو لوگ خدیجۃ الكبرى کہ کر پکارتے تھے، اسے بنیاد بنا کر کیا میں بھی اپنی بیوی کو "کبریٰ" کہہ سکتا ہوں یا کہ یہ لقب ان کے ساتھ خاص تھا۔ چنانچہ میری بیوی کا نام نورا ہے اور میں اسے خوش کرنے کے لئے "نورا الكبرى" کہنا چاہتا ہوں، کیا اس کی گنجائش ہے؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابتدائی دور کے مسلمانوں میں سے کسی سے بھی ام المؤمنین خدیجہ کا لقب خدیجۃ الكبرى ثابت نہیں ہے۔ بلکہ یہ لقب اکثر رافضی شیعہ ہی استعمال کرتے ہیں، اگرچہ بعض اہل سنت علماء نے بھی اس لقب کو استعمال کیا ہے۔

"الطبقات السنیة فی تراجم الحنفیہ" (1/51)۔ مکتبہ شاملہ کی ترتیب کے مطابق - میں مذکور ہے:

"عائشہ رضی اللہ عنہا، خدیجۃ الكبرى کے بعد سب عورتوں سے افضل اور مؤمنوں کی ماں ہیں، آپ بد اخلاقی اور رافضیوں کے الزامات سے پاک اور بری ہیں" انتہی

ابن قنفذ کی کتاب "الوفیات" (1/32) میں ہے:

"خدیجۃ الكبرى کی وفات ہجرت سے تین سال قبل ہوئی"

محمد امین بن فضل اللہ نے بھی اپنی کتاب "خلاصۃ الأثر فی أعیان القرن الحادی عشر" (3/254) میں آپ رضی اللہ عنہا کو "الكبرى" کہا ہے۔

دوم:

آپ اپنی بیوی کی عزت افزائی اور خوش کرنے کے لئے اسے "نورا الكبرى" کہہ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ اعتقاد نہ ہو کہ اس لقب کی کوئی خاص فضیلت ہے، یا اس میں ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لقب کے ساتھ مشابہت ہے کیونکہ ان کے لیے یہ لقب ثابت ہی نہیں ہے جیسے کہ بیان کر دیا گیا ہے۔

والله اعلم.